

1 اگست 2018

برامپٹن کے بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی باضابطہ فہرست

برامپٹن، آن – برامپٹن کے 2018 بلدیاتی انتخابات کے لیے نامزدگیاں پچھلے ہفتے، مورخہ 27 جولائی کو بند ہو گئی تھیں۔

سٹی کلرک کی جانب سے مصدقہ امیدواروں کی باضابطہ فہرست www.brampton.ca/bramptonvotes سٹی کی ویب سائٹ یعنی پر دستیاب ہے۔

تائید کے ذریعے منتخب شدہ

میونسپل الیکشنز ایکٹ 1996 کے مطابق اگر نامزدگی کے دن کے بعد آنے والے پیر کو شام 4 بجے تک کسی عہدے کے لیے مصدقہ امیدواروں کی تعداد انتخابی نشستوں کی تعداد کے برابر یا کم ہو، تو کلرک کو فوراً امیدوار یا امیدواروں کو تائید کے ذریعے منتخب شدہ قرار دینا چاہیے۔ سٹی کو وارڈز 7، 8، 9 اور 10 میں ڈفرن-پیل کیتھولک ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کے ٹرسٹی کے عہدے کے لیے صرف ایک نامزدگی موصول ہوئی تھی۔ لہذا کامیاب امیدوار، شان زیویئر (Shawn Xaviour) بذریعہ تائید جیت گئے ہیں۔

جھلکیاں

- 2018 بلدیاتی انتخابات بروز پیر، 22 اکتوبر 2018 کو منعقد ہوں گے۔ ووٹ دینے کے اوقات صبح 10 تا رات 8 بجے تک ہوں گے۔
- ان انتخابات میں نئی چیز کے طور پر، برامپٹن ووٹرز انتخاب کے دن اپنے وارڈ کے اندر موجود کسی بھی مقام سے ووٹ دینے کے قابل ہوں گے۔
- پیشگی ووٹنگ 2، 3، 4، 6، 9، 10، 11 اور 13 اکتوبر کو منعقد کی جائے گی۔ اوقات اور مقام کے بارے میں معلومات [یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے](#)۔
- بل 5، جو سٹی آف ٹورانٹو ایکٹ 2006، میونسپل ایکٹ 2001 اور میونسپل الیکشنز ایکٹ 1996 میں ترمیم کرنے کے لیے ایک ایکٹ ہے، پر 30 جولائی 2018 کو پہلی مرتبہ اونٹاریو کی قانون ساز اسمبلی میں بحث کی گئی۔ اگر یہ منظور ہو گیا، تو یہ بل ریجن آف پیل کے چیئر کے انتخاب کو ملتوی کر دے گا۔ ریجن آف پیل چیئر کے عہدے کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے ریجن آف پیل کی [ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔
- امیدواروں کی مہمات یا پلیٹ فارمز کے متعلق سوالات یا دیگر معلومات کے لیے متعلقہ امیدوار سے رابطہ کریں۔
- تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کی رجسٹریشنز 19 اکتوبر 2018 تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔